

## سٹی نے برامپٹن اور ٹورانٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان نقل و حرکت کے لیے نئی زوم بسیں چلانے کا اعلان کر دیا

برامپٹن، آن (3 مارچ 2020) – سٹی آف برامپٹن کو برامپٹن تا ٹورانٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان نقل و حرکت کے لیے نئی زوم بسیں چلانے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ زوم بوویرد 505 روٹ میں توسیع کرتے ہوئے، اس کا دائرہ کار ایئرپورٹ تک بڑھایا جائے گا اور اس کا آغاز خزاں 2020 میں متوقع ہے۔

سٹی کے 2020 بجٹ میں اس منصوبے کو برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔ اس مجوزہ توسیع کی وجہ سے علاقائی روابط میں بہتری آئے گی اور ٹورانٹو پیئرسن میں کام کرنے والے یا وہاں سے سفر کرنے والے رہائشیوں کو مزید سفری سہولیات میسر آ جائیں گی اور انوویشن کوریڈور کے ساتھ برامپٹن کے روابط کو بھی مزید تقویت حاصل ہو گی۔

پیئرسن ایئرپورٹ بہت بڑی اور پیچیدہ جگہ ہے جہاں پر 400 سے زیادہ کمپنیاں کام کرتی ہیں اور ان میں تقریباً 50,000 ملازمین کام کرتے ہیں؛ جن میں سے 10,000 ملازمین کا تعلق برامپٹن سے ہے۔ ایئرپورٹ ایمپلائمنٹ زون کو پیئرسن مربوط و منتظم کرنا ہے، جن میں برامپٹن، مسی ساگا اور ایٹوبیکوک کے علاقے شامل ہیں، اور اس کو کینیڈا میں روزگار کا دوسرا سب سے بڑا علاقہ بھی مانا جاتا ہے جہاں پر 300,000 سے زیادہ ملازمتیں موجود ہیں۔

گریٹر ٹورانٹو ایئرپورٹس اتھارٹی (GTAA) نے اس نئے روٹ کو خوش آمدید کہا ہے کیونکہ تحقیق سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ برامپٹن اور ایئرپورٹ کے درمیان بسوں کے براہ راست روٹ چلانے سے قابل ذکر فوائد سامنے آنے کی توقع ہے۔ زوم بوویرد 505 میں توسیع کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے برامپٹن میں رہائش پذیر ایئرپورٹ ملازمین کی موجودہ تعداد دوگنا تک بڑھ سکتی ہے۔

ٹورانٹو پیئرسن سے برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافر دیگر مقامی ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس بشمول UP ایکسپریس، چھ TTC روٹس، چار می وے (MiWay) روٹس، دو GO ٹرانزٹ روٹس اور دیگر مقامی سروسز مثلاً گری ہاؤنڈ (Greyhound) سے بھی منسلک ہو سکتے ہیں۔

### فوری حقائق

- شہر کے ٹرانزٹ انفراسٹرکچر میں بہتری لانے کے لیے 2020 کے بجٹ میں 1 فیصد لیوی رکھی گئی ہے۔
- روٹ 505 زوم بوویرد کی توسیع پر \$1.75 ملین کے اخراجات آئیں گے - جن میں \$900,000 سٹی کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے جبکہ باقی رقم محصولات سے حاصل ہو گی۔
- موجودہ طور پر پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام کرنے والے برامپٹن کے 10,000 رہائشیوں میں سے 13 فیصد ملازمین بذریعہ پبلک ٹرانسپورٹ سفر کرتے ہیں۔

**اقتباسات**

"انویشن کوریٹور کے ایک حصے کے طور پر اور اینرپورٹ کو ایک بڑی افرادی قوت کی فراہمی میں مدد دینے کے لیے، ہم اپنے علاقے کی معاشی بڑھوتری میں اپنا کردار ادا کرنے اور ملازمت کی جگہوں تک پہنچنے میں برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پر ہم دلی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کمیونٹی کو فوقیت دینے کے لیے 2020 بجٹ میں سرمایہ کاری کے اہم مواقع کو ترجیح دی گئی ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"آج کے اعلان کی وجہ سے برامپٹن سے ٹورانٹو تک سفر کرنے والے ملازمین اور مسافروں کو زیادہ آسان رسائی حاصل ہو جائے گی۔ کاروباری اداروں اور لوگوں کو دنیا کی تین تہائی معیشتوں سے مؤثر طور پر مربوط کرنے کے لیے ہمیں مضبوط زمینی روابط کی ضرورت ہے۔ اس سروس کی وجہ سے اینرپورٹ اور باقی دنیا کے ساتھ برامپٹن کے رابطوں کو تقویت حاصل ہو گی۔"

- سکاٹ کولینر، وائس پریزیڈنٹ، کسٹمر اینڈ ٹرمینل سروسز، GTAA

"2020 کے منظور شدہ بجٹ میں ایسی سرمایہ کاریاں شامل کی گئی ہیں، جیسے نقل و حرکت میں توسیع کی یہ حکمت عملی، جو برامپٹن کو مواقع کا شہر بنانے کی ملکی حکمت عملی کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ اس بجٹ میں ہمارے رہائشیوں کے لیے اعلیٰ معیار کی ٹرانزٹ سروسز کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ ہمارے رہائشی ملازمتوں کی جگہوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آجریں برامپٹن کی باصلاحیت افرادی قوت سے مستفید ہو سکیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)